

[AS INTRODUCED IN THE NATIONAL ASSEMBLY]

A
Bill

to amend the National Institute of Folk and Traditional Heritage (Lok Virsa) Ordinance, 2002

WHEREAS, it is expedient to amend the National Institute of Folk and Traditional Heritage (*Lok Virsa*) Ordinance, 2002, in the manner and for the purposes hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:—

1. **Short title and commencement.**— (1) This Act shall be called the National Institute of Folk and Traditional Heritage (*Lok Virsa*) Amendment Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 3, Ordinance LIV of 2002.**— In the National Institute of Folk and Traditional Heritage (*Lok Virsa*) Ordinance, 2002 (LIV of 2002), hereinafter referred to as the said Ordinance, in section 3, in sub-section (3), for the words “Federal Government”, the words “Prime Minister” shall be substituted.

3. **Amendment of section 6, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 6, in sub-section (2), for the words “Federal Government”, wherever occurring, the words “Prime Minister” shall be substituted.

4. **Amendment of section 7, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 7,—

(a) in sub-section (2), for the words “Federal Government”, the words “Prime Minister” shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), for the words “Federal Government”, the words “Prime Minister” shall be substituted.

5. **Amendment of section 10, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 10, in sub-section (1), for the words “Federal Government”, the words “Prime Minister” shall be substituted.

6. **Amendment of section 13, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 13, for the word “rules”, the word “regulations” shall be substituted.

7. **Amendment of section 15, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 15, in clause (c), for the words “Federal Government”, the words “Board of Governors” shall be substituted.

8. **Amendment of section 16, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 16, for the words “Federal Government”, the words “Minister-in-

charge of the Division Concerned to which the subject of this Ordinance stands allocated" shall be substituted.

9. **Amendment of section 18, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, in section 18, for the words "Federal Government", the words "Board of Governors" shall be substituted.

10. **Insertion of new section 21, Ordinance LIV of 2002.**— In the said Ordinance, after section 20, the following new section 21, shall be inserted, namely:—

"21. Power to make rules and regulations.—(1) The Federal Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act in respect of external matters of the Institute.

(2) The Institute may, with approval of the Board and by notification in the official Gazette, make regulations for its internal matters not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The National Institute of Folk and Traditional Heritage, popularly known as "Lok Virsa" was established through a resolution in 1974. The resolution was amended in 1981 and 1983. The Institute obtained an autonomous statutory legal status through an Ordinance promulgated by Federal Government in 2002. The Institute is working under the administrative control of the National Heritage and Culture Division.

2. In pursuance of the instructions of the Cabinet Division dated 13th May, 2025 regarding the substitution of the term "Federal Government" with the appropriate authority in relevant laws and rules, Lok Virsa Ordinance proposed necessary amendments to specific provisions of the Lok Virsa Ordinance, 2002. Accordingly, the draft amendments were submitted to the Ministry of Law and Justice for vetting. Ministry of Law & Justice vetted the draft amendments. Subsequently, Cabinet Committee for Disposal of Legislative Cases (CCLC) has recommended to amendments vide Case No. CCLC-132/22/2025 dated 08.10.2025 which has been ratified by Cabinet under case No.192/22/2025/ dated 16.10.2025.

3. The Bill seeks to achieve the aforesaid object and is therefore submitted for enactment by the Parliament.

Aurangzeb Khan Khichi
Minister for
National Heritage and Culture Division

[قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے]

قومی ادارہ برائے عوامی وثقافتی ورثہ (لوک ورثہ)

آرڈیننس، ۲۰۰۲ء میں ترمیم کرنے کا بل

ہر گاہ کہ، یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں رونما ہونے والی اغراض کے لیے اور ایسے طریقہ کار میں، قومی ادارہ برائے عوامی وثقافتی ورثہ (لوک ورثہ) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء میں ترمیم کی جائے؛

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:۔ (۱) یہ ایکٹ قومی ادارہ برائے عوامی وثقافتی ورثہ (لوک ورثہ) سرٹیفیکی

ایکٹ، ۲۰۲۵ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی، دفعہ ۳ کی ترمیم:۔ قومی ادارہ برائے عوامی وثقافتی

ورثہ (لوک ورثہ) آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء) میں، بعد ازیں جس کا حوالہ ”مذکورہ آرڈیننس“ کے طور پر دیا گیا ہے، کی، دفعہ ۳ کی، ذیلی دفعہ (۳) میں، الفاظ ”وفاقی حکومت“ کو، الفاظ ”وزیراعظم“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۳۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی، دفعہ ۶ کی ترمیم:۔ مذکورہ آرڈیننس میں، دفعہ ۶ کی،

ذیلی دفعہ (۲) میں، الفاظ ”وفاقی حکومت“ دوسری مرتبہ آنے پر، الفاظ ”وزیراعظم“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۴۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی، دفعہ ۷ کی ترمیم:۔ مذکورہ آرڈیننس میں، دفعہ ۷ میں،

(الف) ذیلی دفعہ (۲) میں، الفاظ ”وفاقی حکومت“ کو، الفاظ ”وزیراعظم“ سے تبدیل کر دیا جائے گا؛ اور

(ب) ذیلی دفعہ (۳) میں، الفاظ ”وفاقی حکومت“ کو، الفاظ ”وزیراعظم“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۵۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی، دفعہ ۱۰ کی ترمیم:۔ مذکورہ آرڈیننس میں، دفعہ ۱۰

میں، ذیلی دفعہ (۱) میں، الفاظ ”وفاقی حکومت“ کو، الفاظ ”وزیراعظم“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۶۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی، دفعہ ۱۵ کی ترمیم:۔ مذکورہ آرڈیننس میں، دفعہ ۱۵

میں، شق (ج) میں، الفاظ ”وفاقی حکومت“ کو، الفاظ ”گورنروں کے بورڈ“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۷۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۶ کی ترمیم:- مذکورہ آرڈیننس میں، دفعہ ۱۶ میں، الفاظ ”وقاتی حکومت“ کو، الفاظ ”امور سے متعلقہ ڈویژن کا وزیر“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۸۔ آرڈیننس ۵۴ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۱۸ کی ترمیم:- مذکورہ آرڈیننس میں، دفعہ ۱۸ میں، الفاظ ”وقاتی حکومت“ کو، الفاظ ”گورنروں کے بورڈ“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

بیان اغراض و وجوہ

قومی فنڈ برائے عوامی و ثقافتی ورثہ، جو ”لوک ورثہ“ کے نام سے مشہور ہے ۱۹۷۴ء میں ایک قرارداد کے ذریعے قائم کیا گیا تھا اور اس میں ۱۹۸۲ء اور ۱۹۸۳ء میں ترمیم کی گئی۔ اس ادارے کو وفاقی حکومت کی جانب سے ۲۰۰۲ء میں جاری کردہ آرڈیننس کے ذریعے خود مختار قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ ادارہ قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے انتظامی کنٹرول کے تحت کام کر رہا ہے۔

۲۔ کابینہ ڈویژن کی مورخہ ۱۳ مئی، ۲۰۲۵ء کی ہدایات کی پیروی میں جو متعلقہ قوانین اور قواعد میں اصطلاح ”وقاتی حکومت“ کو موزوں اتھارٹی سے تبدیل کرنے سے متعلق لوک ورثہ آرڈیننس، ۲۰۰۲ء کے مخصوص احکامات میں ضروری ترامیم کی تجویز دی ہے۔ بحسب مسودہ ترامیم وزارت قانون و انصاف کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وزارت قانون و انصاف نے مسودہ ترامیم کی جانچ پڑتال کیا۔ بعد ازاں، کابینہ کمیٹی برائے قانونی معاملات کا تصفیہ (CCLC) نے کیس نمبر سی ای سی۔ ۲۰۲۵/۲۲/۱۳۳ کے تحت ۲۰۲۵/۱۰/۰۸ کے ذریعے ترامیم کی سفارش کی جس کی توثیق کابینہ نے کیس نمبر۔ ۲۰۲۵/۲۲/۱۹۲ مورخہ ۲۰۲۵/۱۰/۱۶ کے تحت کی۔

۳۔ بل مذکورہ بالا متعلقہ امور کے حوالے سے اس لیے پارلیمنٹ سے قانون وضع کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔

(آشرف علی سائمن)
وقاتی وزیر

قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن

Friday, 22 November 2025, 9:56 AM